

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ

کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس

----- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (یوں، آیت ۱۸)

پاک ہے وہ ذات اور بلند بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

وَسْلَكَ شُرُك

ایک کیپن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی حجۃ اللہ علیہ

ایم بی بی ایس (لکھنؤ)

فاضل علوم رینسیر (وقات الملاس ملنائ)

رابطہ کیلیے پتہ:

محمد حنیف، پوسٹ بکس نمبر ۲۸۰۷، مسجد توحید، توہید روڈ، کیاڑی، کراچی

فون: 2850510-2854484

www.emanekhalis.com



الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
 شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَفْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْبِلُهُ فَلَا هَادِيهِ
 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اما بعد! لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو تم ولی اللہ سمجھتے ہو، اس کی قبر کے پاس پہنچ کر اس قدر خوفزدہ اور بد حواس کیوں ہو جاتے ہو کہ کبھی قبر کے پاس جھکے جا رہے ہو، کبھی قبر کو ہاتھ لگا کر اس کی خاک بدن پر ملتے ہو، کبھی اس کا طاف کرتے ہو، کبھی ہاتھ باندھے اس کے پاس اپنی پیتا نیں بیان کر رہے ہوتے ہو، کبھی صاحب قبر کی دہائی دیتے ہو، کبھی نذر نیاز اور چڑھاوے پر اتر آتے ہو، کبھی منتیں مانتے ہو کہ اولاد ہو جائے تو یہ نذر کروں گا، یہاری چلی جائے تو یہ خدمت بجالاؤں گا؛ واپس ہونے لگتے ہو تو اٹھ پیروں چلتے ہو کہ قبر کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے، قبر کے قریب یادوں جہاں سے بھی گزر و قبر کا رخ کر کے سلام کرتے ہو اور اس میں برکت جانتے ہو اور ایسا نہ کرنے پر سخت مشکل میں پڑ جانے کا دھڑکا تمہیں لگا رہتا ہے، اولاد ہو تو نہلا دھلا کر لاتے ہو اور فرش پڑال دیتے ہو، دوہماں کو نکاح کے واسطے لیے جا رہے ہوتے ہو تو پہلے قبر پر حاضری دیتے ہو..... آخر یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا نہیں ہے؟ اور کیا کسی ایک ولی اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے؟ ولی اللہ تو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ ہی کو پکارنے والے ہوتے ہیں؛ وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتے تھے کہ تم یہ کام کرنے کے بجائے ان کو پکارو، ان سے مانگو؟

عجیب بات ہے کہ جب ان نا سمجھوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہی بتاو کہ کیا کوئی ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا ان باقتوں کا حکم دے سکتا ہے جو تم آج کرتے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری پہنچ اللہ کے دربار تک کہاں، اور یہ اللہ والے بزرگ تھے ہم ان کو خوش کر کے اللہ کے اپنا اپنا وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں؛ آخر دنیا میں بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو کیا دربار یوں اور وزراء کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا..... یہ بالکل وہی بات ہے جو عرب کے لوگ اس وقت کہا کرتے تھے جب ان کو ٹوکا جاتا تھا کہ ایک مالک کو چھوڑ کر تم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو۔؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نقشہ یوں پیش فرماتا ہے:

غَلَطٌ تُوْ جِهَهٌ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِنَا أَوْلِيَاءَ مَا نَعْدُهُمُ الْأَلِيَقُرْبُونَا لَإِنَّ اللَّهَ زُلْفٌ (الزمیر: ۳)

”رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سواد و سرے سر پرست بنار کھے ہیں (وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں“

اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ: **هُوَ لَأَنَّ شُفَعًا وَنَّا عِنْدَ اللَّهِ** (سورہ یونس: ۱۸) ”یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔“ سچ ہے دنیا بھر کے لوگ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم دوسرا ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے، خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبد و اسی کو سمجھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ بہت اوپنجی ہے، وہاں تک ہماری رسائی بھلا کہاں؟ اس لیے ہم ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعا میں اور العجائب میں اس تک پہنچا دیں اور ہمارے سفارشی نہیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے!

دنیا کے بادشاہوں کو تو سوال کرنے والے کے حالات اور ضروریات کا کچھ علم نہیں ہوتا مگر مالک اس نقش سے پاک ہے، وہ توہرانسان کے دل کی بات تک سے واقف ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی وزیر اس تک خبر پہنچائے تب اسے معلوم ہو۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہ اپنے سرداروں اور وزیروں کے جھرمٹ میں نہیں رہتا کہ جب تک کوئی سردار یا وزیر اٹھ کر سفارش نہ کرے، وہ کسی کی عرض داشت سننے پر رضا مند ہی نہ ہو! اور نہ وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح تند مزاج اور غصہ ور ہے کہ کسی سائل کو خدام ادب کا ذریعہ چھوڑ کر، براہ راست اس کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا یارانہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وزیر اور بادشاہ قسم کی غلط مثالیں بیان کرنے سے قرآن میں منع فرمایا ہے، اور بتا دیا ہے کہ میں ہر بات کا علم بھی رکھتا ہوں، اور اپنے بندوں کے لیے ارحم الرحمین ہوں، دوسرے ایسے نہیں ہیں:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَآتُّمُ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ٢٧)

”پس اللہ کے لیے مثالیں نہ کھرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“

مالک حقیقی کا حال تو یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوْسُوْنَ بِهِ نَفْسُكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِّنْ حَبْلِ الْوَرْيَدِ (سورہ ق: ١٦)

”ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باقی اس کے بھی میں آتی ہیں اور ہم اس سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

یہ ہے اللہ کا معاملہ، رہے دوسرے تو ان کو اپنے پکار نے والوں کی پکار کی خبر ہی نہیں ہوتی، پہنچانا اور سفارش کرنا تو بعد کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصلی مسئلہ ہے۔ اور قرآن نے اولیاء اللہ کو دعا میں پہنچانے والا سمجھنے والوں کو مشرک کہا ہے۔ ابو جہل کا سب سے مضبوط عقیدہ یہی تھا۔

پروردگار براہ راست دعاوں کو سنتا ہے [یہی اللہ کے دربار تک دعاوں کے پہنچانے کا مسئلہ نبی ﷺ کے سامنے بھی لا یا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ کیا ہماری بات براہ راست اللہ کے دربار تک پہنچ سکتی ہے اور کیا بغیر و سیلے کے ہماری دعا میں سنی جاسکتی ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن میں اس کا جواب ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌنِي عَرَقٍ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَنِ فَلَيْسَتْجِيْبُوا لِيٌ وَلَيُؤْتِنُوا لِيٌ لَعَلَّهُمْ يَرْسُلُونَ] (البقرۃ: ١٨٢)

”اور (اے نبی ﷺ) میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکار نے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لا لیں۔ یہ بات تم انہیں سنادو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔“

غرض اس طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ اگرچہ تم مجھے دیکھنیں سکتے لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض معرض کر سکتا ہے؛ حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فیصلہ بھی صادر کر دیتا ہوں اور جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے حاجت رو امشکل کشا اور فریاد رس قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تم کو دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ نہ تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں۔ اور میں کائنات بے پایاں کا فرماں روائے مطلق، تمام اختیارات اور تمام طاقتیں کا مالک، تم سے اتنا

قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو؛ لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار، بناؤنی اللہ کے در پر مارے مارے پھرتے ہو؛ میں جو حکم تمہیں دے رہا ہوں اس کو مان لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی اور اطاعت کرو۔ (ماخوذ)

دعا کے لیے زندوں کو وسیلہ بنانا

بہت سے لوگ قبروں پر جانے کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم وہاں مانگنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ ان بزرگوں سے اپنے حق میں دعا کروانے جاتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی دعاؤں کو وسیلہ بنانا ہی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان سے دعا کرواؤ، دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ دعا ہر زندہ مومن سے کروائی جاسکتی ہے۔

نبی ﷺ سے جب عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ جا کر عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے کر کہا:

یَا أَخَيٰ لَا تَنْسِنَا مِنْ ذُعَائِكَ (مسند داؤد الطیالسی) ”پیارے بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔“

مردہ بزرگوں کو دعا کے لیے وسیلہ بنانے کا شرک

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکوں کا سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ مردوں کو اپنا سفارشی اور دعاؤں کا وسیلہ بنا کر پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ

نے ان کوخت سے ڈانٹا اور اس فعل شنیع سے منع کیا۔ اے کاش کہ اصحاب قبور کو

دعا کے لیے وسیلہ بنانے والوں کو یہ بھی خبر ہوتی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی وفات کے بعد ان کو دعا کے

لیے وسیلہ نہیں بنایا اور نہ ہی نبی ﷺ کی قبر پر گئے، بلکہ عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے وسیلہ بنایا:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قِحْطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّداً فَسُقِّنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فِيْسَقُونَ (بخاری: کتاب الاستسقاء، جلد اصفحہ ۱۳ مطبوعہ دہلی)

”انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب قحط پڑتا تھا تو، عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ بارہا ہم (پہلے) اپنے نبی ﷺ کو تیری طرف (دعا کے لیے) وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا۔ (اب جبکہ وہ ہم میں نہیں ہیں) ہم اپنے نبی ﷺ کے پچا کو (دعا کے لیے) وسیلہ بناتے ہیں، مالک بارش بھیج۔ پھر بارش ہوتی۔“

اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو قحط عام الرمادہ (راکھ کا سال) کے نام سے موسوم ہے، ۱۸ھ میں گزرا ہے۔

اس کے واقعہ کی تفصیل ابو صالح السمان رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خازن تھے، یوں بیان کرتے ہیں:

فَلَمَّا صَعَدَ عُمَرُ مَعَ الْعَبَاسِ الْمِنْبَرَ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا تَوَجَّهُنَا إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ

وَصَنُوَّابِيهِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ ثُمَّ قَالَ قُلْ يَا أَبا الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَاسُ

اللَّهُمَّ لَمْ يَنْزِلْ بِلَاءً إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يُكَشِّفْ إِلَّا بِتُوبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِنِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ

لِمَكَانٍ مِنْ نِبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِيْنَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِيْنَا بِالْتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ

فَأَرْخَتِ السَّمَاءُ شَابِيبَ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى اخْصَبَتِ الْأَرْضُ (حاشیہ بخاری: جلد اصفحہ ۱۳)

”پس جب عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ منبر پر چڑھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: اے مالک ہم تیرے نبی ﷺ کے

چچا کے ذریعہ جوان کے باپ کے بھائی ہیں، تیری طرف رخ کرتے ہیں، تو اے مالک ہمارے لیے پانی برسا اور

ہمیں نا امید نہ کر۔ پھر انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو الفضل! اب آپ دعا کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مالک! تیری کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور وہ دور نہیں ہوتی مگر توبہ سے؛ اور اس وقت قوم نے تیرے نبی ﷺ کی نگاہ میں میرے مقام [☆] کی وجہ سے تیری بارگاہ میں مجھے ذریعہ بنایا ہے؛ تو اے مالک! یہ گناہ آلوہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بارا الہا! ہم پر بارش برسا۔ پس آسان نے پھاڑوں جیسے دھانے کھول دیے اور زمین بجھی۔“

آخر نبی ﷺ سے زیادہ فضیلت والی ذات کوئی ہے جس کا مرنے کے بعد دعاء میں وسیلہ اختیار کیا جائے؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر نبی ﷺ کی وفات کے بعد وہ نبی ﷺ کی قبر پر جا کر نہ تو ان کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں اور نہ دعاء استققاء کے وقت بلکہ نبی ﷺ کے پچھا عباس رضی اللہ عنہ جو دنیا میں زندہ تھے، ان کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور مالک بارش برساتا ہے۔

جن لوگوں نے وسیلہ کے نام سے بزرگان دین کی استعانت اور انیاء اور اولیاء سے استغاثہ جائز کر رکھا ہے، انہوں نے قرآن کے لفظ و سیلہ (بمعنی قرب) کواردو کے لفظ و سیلہ (بمعنی ذریعہ) کا مترا داف سمجھ لیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث

اللہ تعالیٰ کو کسی کے حق کا واسطہ دینا جائز نہیں

سے یہ ثابت ہے کہ و سیلہ سے تقرب مراد ہے۔ مسلم کی روایت ہے :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤْذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوْأَعْلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَوَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوَانَ أَكُونُ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفاعةُ (راوہ مسلم: کتاب الصلوٰۃ)

”عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسیدہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان دینے والے کو اذان دیتے ہوئے سن تو وہی کلمات کہو جو وہ کہہ رہا ہو، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے؛ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ کیونکہ یہ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ ہوں۔ سن لو جس نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ وسیلہ مالکا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔“

معلوم ہوا کہ وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام ہے۔ اور بخاری کی روایت یوں ہے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوْأَالْقَائِمَةِ اتِّمْ مُحَمَّدَ نَ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَابْعُثْهُ مَقَاماً مَمْحُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخاری: کتاب الاذان، جلد ۱ صفحہ ۸۲)

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ راویت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے اذان سن کر یہ کہا کہ اے اللہ! اس پوری پکار کے رب اور ہمیشہ باقی رہنے والی نماز کے مالک! عطا فرمحمد (صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسیدہ) کو وسیلہ اور فضیلت اور مبعوث فرمان کو اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، (تو) ایسے کہنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔“

پس معلوم ہوا کہ وسیلہ سے مراد قرب الہی ہے اور اس سے کسی کی ذات کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانا مقصود نہیں۔

[☆] کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسیدہ عظمہ و یکرمہ بعد اسلامہ (اسد الغابة): رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسیدہ ان کے قبول اسلام کے بعد ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے

علامہ آلوسی، تفسیر روح المعانی کے مصنف نے بڑی تفصیل سے اس بات پر گفتگو کی ہے اور لکھا ہے کہ

الْإِسْتِعَانَةُ بِمَخْلُوقٍ وَ جَعْلُهُ وَسِيلَةً بِمَعْنَى طَلْبِ الدُّعَاءِ مِنْهُ لَا شَكَ فِي جَوَازِهِ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ حَيَاً وَ أَمَا إِذَا كَانَ مَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَلَا يُسْتَرِيبُ عَالَمُ أَنَّهُ غَيْرَ جَائِزٌ وَ أَنَّهُ مِنَ الْبَدَعِ التِّي لَمْ يَفْعُلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلْفِ وَ لَمْ يَرُوْعَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

وَهُمْ أَحَرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ أَنَّهُ طَلَبٌ مِنْ مَيِّتٍ شَيْئًا (روح المعانی: جلد ۲ صفحہ ۱۲۵)

”کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس گواں معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ دعا کرے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بشرطیکہ جس سے درخواست کی جا رہی ہو وہ زندہ ہو۔ دوسرا طرف میت یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں ہے اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام ﷺ سے بڑھ کر نیکی اور ثواب کا حریص اور کون ہوا ہے لیکن کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا ہو۔“

یہی بات امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف سے ثابت ہے۔ ابو الحسین قدوری اپنی فقہ کی کتاب لمسی بشرح الکرخی کے باب الكراہۃ میں لکھتے ہیں کہ

قَالَ بَشَرٌ بْنُ الْوَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسَفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يَدْعُو اللَّهَ إِلَيْهِ وَأُكْرِهَ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ خَلْقِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسَفَ: قَالَ أَبُو يُوسَفَ أُكْرِهَ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ فُلَانَ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرَسُولِكَ وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ الْقُدُورِيُّ: الْمَسْأَلَةُ بِخَلْقِهِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا حَقٌّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ فَلَا تَجُوزُ وَفَاقَاً

”بشر بن ولید کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو یوسف نے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے کہا کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بجز اس کی ذات اور صفات کے حوالہ دے کر دعا کرنا جائز نہیں ہے اور میں ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ حق تیری مخلوق کے۔ اور یہی قول ابو یوسف کا ہے: وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ حق تیرے نبیوں کے، حق تیرے رسولوں کے، یا حق بیت الحرام یا حق مشعر الحرام۔ (اس کے بعد) امام قدوری کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے ادا کرے۔“

یہی بات احناف کے مسلک کی سب سے معتبر کتاب ہدایہ کی کتاب الكراہۃ میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

وَيُكْرِهُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرَسُولِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقٌّ

لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ (هدایۃ: جلد ۲، صفحہ ۲۵۹ سطر ۲، ۳)

”اور جائز نہیں کہ کوئی اپنی دعا میں یوں کہے کہ حق فلاں یا اپنے انبیاء اور رسولوں کے حق کے طفیل یا صدقہ میں کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔“

اور یہ کہنا بھی کہ:

اللَّهُمَّ أَسَأْلُكَ بِحَقِّ فُلَانَ عَبْدِكَ أَوْ بِجَاهِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ نَحْوَذَالِكَ مَكْرُوْهَةَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ عِنْدَ جَمِيعِ مُتُوْنِ الْحَنْفِيَّةِ وَهِيَ كَالْحَرَامِ فِي الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ

(مستناد من صیانت الانسان: صفحہ ۲۰۱)

”اے اللہ میں تجھ سے فلاں بندے کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ یا یوں کہے کہ اس کی جاہ کے واسطے سے

یا اس کی حرمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، مکروہ تحریکی ہے اور یہ بات احتراف کی ساری کتابوں کے متنوں میں لکھی ہوئی ہے۔ امام محمد کے نزدیک یہ کہنا ایسا حرام ہے کہ اس پر آگ کا عذاب ہو گا۔“ معلوم ہونا چاہیے کہ ”گَرِّه“ کا الفاظ حدیث اور عبارات سلف میں مکروہ تنزیہ سے لے کر حرام تک کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہاں مکروہ تحریکی کے لیے آیا ہے۔

اور کیا اس ظلم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جو ان نام نہاد گروہ صوفیا نے اسلام پر ڈھایا ہے؟ ہر دعا سے پہلے وہ ان ”حقوق“ کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے ”شجرہ شریف“ رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی ”دھونس“ کا یہ انداز بھی خوب ہے!

افسوں کہ آج اللہ تعالیٰ کو کبھی نبی ﷺ کا واسطہ دلایا جاتا ہے، کبھی کسی ولی کا اور کبھی کسی پیر کا؛ اور قرآن کی وسیلہ والی آیت کو لوگوں نے اردو زبان کے وسیلہ کے معنی میں ڈھال کو دعاؤں میں اللہ کے نیک بندوں کی ذات کو وسیلہ بنانے کا مذموم طریقہ ایجاد کر لیا ہے! ہر چند کہ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد اللہ کا تقرب ہے اور وہ ایمان اور نیک اعمال ہی کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ آیت یہ ہے:

بِإِيمَانِ الَّذِينَ أَمْنَوْا تَقْوَةً اللَّهَ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدۃ: ۳۵)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈ ہو، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

قرآن کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ”وسیلہ“ سے قربت اور تقرب مراد ہے اور وہ ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور یہی ایمان و عمل کا وسیلہ ہی وہ وسیلہ ہے جس کے حق ہونے پر سب متفق ہیں کیونکہ یہی بات نبی ﷺ سے ثابت ہے۔ لیکن آج جھوٹی روایتوں کے ذریعے نبی ﷺ کی ذات کے وسیلے کو جائز ہی نہیں، مستحسن قرار دے دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے مشہور روایت یہ ہے:

آدم السَّلَّيْلَةُ كَانَ بْنِي عَبْرَةَ كَيْدَنَ كَيْدَنَ كَيْدَنَ كَيْدَنَ كَيْدَنَ کی ذات غصب تو یہ ہے کہ ایک ایسی روایت بھی لائی جاتی ہے جس میں آدم السَّلَّيْلَةُ سے گناہ سرزد ہو جانے کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کو وسیلہ بنانے کی غلط روایت کہ پھر ان کی توبہ نبی ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنے پر قبول ہوئی:

لَمَّا اذَنَبَ اَدْمُ الدَّنْبَ الَّذِي اذَنَبَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَسْلَكْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ

عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا غَفَرْتَ لِي.....الخ

”جب آدم السَّلَّيْلَةُ سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف سراٹھا کر محمد ﷺ کے وسیلہ سے مغفرت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ یہ ”محمد“ کون ہیں؟ آدم السَّلَّيْلَةُ نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور وہاں لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا پایا تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم نے سچ کہا، وہ نبی آخر ہیں اور وہ تمہاری ہی اولاد سے ہوں گے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔“

اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

”اے نبی ﷺ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔“ (فضائل ذکر: صفحہ ۱۲۳)

اللہ اللہ! یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر کس قدر شدید بہتان ہے! قرآن میں تو اللہ تعالیٰ آدم ﷺ کی توبہ کی قبولیت کے سلسلہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے:

فَتَلَقَّى أَدْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَ قَتَابَ عَلَيْهِ طَائِلَةٌ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (البقرة: ٣٧)

”پس سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر۔ بیشک وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا مہربان۔“

اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے آدم ﷺ کو توبہ کی دعا سکھائی، اور اس کے بر عکس یہ روایت کہتی ہے کہ یہ آدم ﷺ کا اپنا اجتہاد تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دریافت کرنا پڑا کہ تم نے آخر محمد ﷺ کا وسیلہ کیسے پکڑا۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور جس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی، قرآن میں بیان کردی گئی ہے اور وہ یہ ہے:

قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِيْنَ (الاعراف: ٢٣)

”(آدم و حوانے) کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشنے اور ہم پر رحم نہ کرے، تو ہم ضرور بتاہ ہو جائیں گے۔“

دوسرہ ظلم اس روایت میں یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا باعث نبی ﷺ کی ذات کو ٹھہرایا گیا ہے حالانکہ قرآن فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (الذاريات: ٥٦)

”میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے،“

ثابت ہوا کہ تخلیق کائنات کی غایت بندگی الہی ہے نہ کہ ذات نبی ﷺ خود ذات نبی ﷺ کو بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ فتنہ حدیث کے لحاظ سے بھی اس روایت کو ہر محدث نے موضوع (گھڑی ہوئی) بتایا ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے اور اس پر (حدیث گھڑنے کا) حکم لگایا گیا ہے (میزان الاعتدا: جلد ۲، صفحہ ۱۰۶)۔

غرض اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے صدقے اور وسیلے کے علاوہ ہر دوسری ذات اور اس کی صفات کے صدقے اور وسیلے کو ناجائز اور شرک قرار دیتا ہے۔ اُس کا فرمان ہے کہ میرے بندو! ما نگنا ہے تو مجھ سے مانگو، پکارنا ہے تو مجھے پکارو۔ صرف میرے پاس ہی وہ خزانے ہیں جو تمہاری ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں اور دعا کرتے وقت میرے اسماء حسنی (ذات اور صفات کے بہترین نام) کو میری رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بناؤ:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠)

”اللہ کے اسماء حسنی ہیں، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔“

اب اگر کوئی اسماء حسنی کے بجائے اس کے کسی نبی یا ولی کا نام لے کر کہتا ہے کہ اپنے اس پیارے نبی یا ولی کے صدقے میں میری دعا قبول فرمائے کریمی حاجت پوری کر دے، تو گویا وہ اللہ کی ذات و صفات کے اسماء حسنی سے زیادہ اس نبی یا ولی کی ذات اور اس کے نام کو موثر مانتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندے کو شریک ٹھہرانا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شدید توبہ ہیں بھی ہے۔

آخر میں ہماری پکار یہ ہے کہ:

کیا کوئی ایسا ہے جو شرک کو مٹانے اور تو حید خالص کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو؟ اور..... کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقوش قدم کی رہنمائی میں باطل کو مٹا کر حق کے قیام کے لئے ہمارے ہمسفر بنیں؟

ہم اپنی کتابوں پر نہ تو کوئی قیمت وصول کرتے ہیں، اور نہ کسی پران کی طباعت و اشاعت کے سلسلے میں پابندی لگاتے ہیں